

فعال فیئرفیکس نقل و حمل منصوبہ پروجیکٹ کی ٹیم سے ملاقات کریں

کرس ویلس، فعال نقل و حمل پروگرام کے مینیجر،

Chris.Wells@fairfaxcounty.gov

کرس فعال نقل و حمل پروگرام کی فیئرفیکس کاؤنٹی میں نگرانی کرتے ہیں۔ وہ اپنے کتے کے ساتھ گھنٹوں پیدل چلنے کا لطف اٹھاتے ہیں۔



نکول وینڈس، فعال نقل و حمل منصوبہ ساز،

Nicole.Wynands@fairfaxcounty.gov

نکول بنیادی طور پر طویل مدتی فعال نقل و حمل منصوبہ سازی اور بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر کام کرتی ہیں۔ وہ ریسٹون کی راہوں پر اپنے خاندان کے ساتھ پیدل چلنے اور سائیکل چلانے کا لطف اٹھاتی ہیں۔



لاورین ڈیلمر، فعال نقل و حمل انجینئر،

Lauren.Delmare@fairfaxcounty.gov

لاورین ایک فعال نقل و حمل انجینئر ہیں جنہیں ڈیزائن کے توسط سے پیادہ افراد اور سائیکل سواروں کے تحفظ میں تخصص حاصل ہے۔ وہ اکثر بغیر پیڈل والی سائیکل پر سوار اپنے بچوں کے پیچھے بھاگتی پائی جا سکتی ہیں۔



فعال فیئرفیکس نقل و حمل منصوبہ خلاصہ

فیئرفیکس کاؤنٹی، سائیکل ماسٹر منصوبے اور پوری کاؤنٹی میں راہوں کے منصوبے کو ملا کر ایک - فعال فیئرفیکس نقل و حمل منصوبہ بنا رہی ہے۔ فعال نقل و حمل سے مراد خود سے تحریک یافتہ، اکثر و بیشتر انسانی توانائی سے انجام پانے والا سفر ہوتا ہے جس میں نقل و حمل اور تفریح کے مقاصد سے پیدل چلنا، سائیکل چلانا، چہل قدمی کرنا (اسکوٹر/ویبل چیئر/اسٹرویلر)، لمبی مسافت پیدل طے کرنا، دوڑنا اور گھوڑے کی سواری کرنا شامل ہیں۔ یہ منصوبہ کاؤنٹی میں محفوظ، آرام دہ اور خوش کن گلیوں اور راہوں کے نفاذ کے لئے ایک وژن اور روڈمیپ قائم کرے گا۔

یہ منصوبہ دو مرحلوں میں تقسیم ہو گا اور پورے خطے کے شرکاء کے ساتھ اشتراک کر کے، فعال فیئرفیکس نقل و حمل منصوبہ:

• مرحلہ ایک (زیر عمل):

- فیئرفیکس کاؤنٹی کے اندر فعال نقل و حمل کے مستقبل کو سنوارنے میں معاون وژن تیار کرے گا
- فعال نقل و حمل کی منصوبہ بندی کے گزشتہ اقدامات کو ایک یاد رکھنے نیز کارکردگی کا سراغ رکھنے میں آسان جامع دستاویز کے اندر یکجا کرے گا
- صحت، غیرجانبداری، طلب، اور تحفظ کے معیاروں پر موجودہ حالات کو سمجھے گا
- نقل و حمل استعمال کرنے والے ہمارے سب سے زیادہ زبردپذیر افراد کے تحفظ کو بہتر بنانے کے لئے واضح رہنمائی فراہم کرے گا؛ اور فیئرفیکس کاؤنٹی جامع منصوبہ کی تازہ کاری کے لئے منصوبہ بندی کا عمل شروع کرے گا

• مرحلہ دو (موسم گرما ۲۰۲۱)

- ایسے ٹولز اور مصنوعات کی تیاری کے ذریعہ قابل رہائش گلیوں کی ڈیزائن کی حوصلہ افزائی کرے گا جن سے لوگ ہمارے نقل و حمل کے نیٹ ورک کا استعمال کر کے اپنی رہائش، ملازمت، کھیل، تعلیم کے مقامات سے جڑ سکیں گے اور نقل و حمل کر سکیں گے
- سبھی عمروں، آمدنیوں اور صلاحیتوں والے افراد کے لئے محفوظ، آرام دہ اور مربوط فعال نقل و حمل کی سہولیات (جیسے کہ مشترکہ استعمال کے راستے، سائیکل کی گزرگاہیں اور فٹ پاتھ) تک رسائی کو سپورٹ کرے گا
- فیئرفیکس کاؤنٹی میں فعال نقل و حمل سہولیات کی سرمایہ کاری کو ترجیح عطا کرے گا تاکہ ایک غیرجانبدار، شفاف، اور قابل حصول تنفیذی حکمت عملی تیار کی جا سکے

• دونوں مرحلوں کے توسط سے شمولیت:

- رابطہ کے ایسے متعدد ٹولز استعمال کر کے کمیونٹی کو شامل کرے گا جن کا مقصد کاؤنٹی کے سبھی مکینوں کی حرکی تشویشات، ضروریات، اور خواہشات کو سمجھنا اور ان کا خیال رکھنا ہو گا
- غیرجانبداری مشاورت اور نوجوان مشاورت کمیٹی کی میٹنگوں کی سہولت فراہم کرے گا جس سے شرکاء اپنے خیالات کا اشتراک کر سکیں گے، فعال فیئرفیکس نقل و حمل منصوبہ کی تیاری میں معاونت کر سکیں گے، اور یہ یقینی بنائیں گے کہ منصوبہ منفرد نقطہ ہائے نظر کی نمائندگی کرتا ہے۔

اپنے خیالات کا اشتراک کریں!

اس منصوبہ بندی کی کامیابی کے لئے کمیونٹی کے مشورے انتہائی اہم ہیں۔ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں! آپ تین (۳) طریقوں سے آج ہی شامل ہو سکتے ہیں (کمیونٹی کے مشورے ۱ مئی ۲۰۲۱ تک قبول کیے جائیں گے):

- **سروے میں حصہ لیں:** یہ سمجھنے میں ہماری مدد کریں کہ آپ فی الحال فعال نقل و حمل کیسے استعمال کرتے ہیں – تفریح کے لئے یا کسی جگہ پہنچنے کے لئے – نیز فیئرفیکس کاؤنٹی میں فعال نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں اپنے خیالات کا اشتراک کریں۔
- **اپنے خیالات کی نقشہ سازی کریں:** دو تعاملی نقشوں پر اس تعلق سے معلومات دیں کہ آپ پیدل یا سائیکل پر کہاں کہاں جاتے ہیں، فعال سفر میں کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اور فعال نقل و حمل کے نیٹ ورک سے کون سی کڑیاں غائب ہیں۔



- اپنے خیالات کا اشتراک کریں۔ اپنے خیالات کا اشتراک کرنے یا سوالات پوچھنے کے لئے فعال نقل و حمل ٹیم کو activefairfax@fairfaxcounty.gov پر ای میل بھیجیں یا انہیں ۵۶۰-۸۷۷-۸۷۷ ٹی ٹی وائی ۷۱۱ پر کال کریں۔

ایسے وقت میں جبکہ فعال فیئر فیکس نقل و حمل منصوبہ زیر تشکیل ہے، کمیونٹی کی متعدد میٹنگیں اور شمولیت کے مواقع کی ترتیب بنائی جائے گی۔ مستقبل کے ان مواقع کے بارے میں مطلع رہنے کی خاطر شمولیت کے لئے:

- فعال فیئر فیکس نقل و حمل منصوبہ کی ویب سائٹ www.fairfaxcounty.gov/transportation/bike-walk/activefairfax پر ملاحظہ کریں۔
- ایف سی ڈی او ٹی فعال نقل و حمل ٹیم سے activefairfax@fairfaxcounty.gov پر، یا ۷۰۳-۵۶۰-۷۰۳، ٹی ٹی وائی ۷۱۱، پر کال کر کے رابطہ کریں۔
- ایف سی ڈی او ٹی کو فیس بک پر [@FFXTransportation](https://www.facebook.com/FFXTransportation) پر فالو کریں اور www.fairfaxcounty.gov/alerts پر فیئر فیکس کاؤنٹی نقل و حمل ٹیکسٹ یا ای میل الرٹ کے لئے سبسکرائب کریں۔

ایک منظم تحفظاتی پروگرام کی تخلیق

ایک منظم تحفظاتی پروگرام ہمارے سب سے زیادہ زہد پذیر سڑک استعمال کنندگان کے لئے محفوظ گلیوں کے تئیں کاؤنٹی کے طویل مدتی عہد کے نفاذ کی شروعات ہے۔ یہ پروگرام آئندہ تین سالوں میں اس تعلق سے کلیدی اقدامات کا خاکہ تیار کرے گا کہ فیئر فیکس کاؤنٹی میں ٹریفک سے وابستہ اموات اور شدید چوٹوں کو جڑ سے ختم کرنے کی جانب کس طرح سے پیش رفت کی جائے۔ یہ منصوبہ متعدد محکموں سے وابستہ کاؤنٹی کے کارکنان کے ذریعہ تیار کیا جائے گا اور اس تعلق سے کمیونٹی کے ذمہ داران، شریک ایجنسیوں، اور عوام کی مشورے اور ہدایات خاطرخواہ مقدار میں لی جائیں گی۔ پروجیکٹ ٹیم ایک جامع لائحہ عمل تیار کرنے میں لگی ہے جس کے تحت درج ذیل میدانوں کا احاطہ ہو گا:

- زمین استعمال کرنے کی پالیسی
- سڑک کا ڈیزائن
- ٹریفک انجینئرنگ
- مکمل گلی کی پالیسیاں
- مالیات کی فراہمی